

## سورة الأذ قاف - Surah 46: Al-Ahqaf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[46:0] Bismi **ALLAH**, Alrahman, Alrahim.\*

حَمَّ ١

[46:1] H. M.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢

[46:2] Saukar da wannan littafi daga **ALLAH** ne, Mabuwayi, Mafi hikimah.

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ

كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرُوا مُعْرِضُونَ ٣

[46:3] Ba Mu halitta sammai da qasa ba, da abin da ke tsakaninsu, sai da gaskiya da wani ajali ambatacce, wadanda suka kafirta, masu bijirewa ne daga abin da aka yi masu gargadi.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤

[46:4] Ka ce, "Ku dubi abin da kuke kira baicin **ALLAH**. Ku nuna mini, menene suka halitta daga qasa? Ko kuwa suna da tarayya a cikin sammai? Ku zo mini da wani littafi na gabanin wannan, ko wata tabbataciyar ilmi, idan kun kasance kuna da gaskiya."

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾

*Abubuwan Bautawa Ba Su Sani Ba*

[46:5] Wane ne mafi bata ban da wanda ke kiran wanin **ALLAH** wanda da ba zai karba masa ba, har Ranar Alqiyamah, kuma ba su ma san ana kiransu ba na bauta?

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾

*Abubuwan Bauta Za Su  
Shika Masu Bautarsu*

[46:6] Kuma idan aka tara mutane (a ranar hisabi), abubuwan bautarsu za su zama maqiya a gare su, kuma za su soki ibadarsu.\*

\*46:6 Dubi littafin Matthew shima 7:12-23: Qarara, Isah zai shika wadanda ke kiransa "Maulah."

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا  
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

[46:7] Kuma idan aka karata masu ayoyinMu bayyanannu, sai wadanda suka kafirta ga gaskiya a sa'ad da ta je masu, su ce, "Wannan sihiri ne bayyananne."

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ

بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

[46:8] Ko sa'ad da suka ce, "Ya qirqiro shi ne" ka ce: "Idan na qirqiro shi ne, to ba za ku iya kare ni ba wurin **ALLAH**. Shi ne Mafi sani ga abin da duk kuke kutsawa. Ya isa Ya zama shaida a tsakanina da ku. Kuma Shi ne Mai gafara, Mafi jin qai."

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنبَعُ إِلَّا

مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

[46:9] Ka ce, "Ban kasance wani dabam ba daga wadansu manzanni. Kuma ban san abin da zai faru da ni ko da ku (na gaibi) ba. Iyaka in bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ni ne kawai. Kuma ni ba kowa ba illa mai yin gargadi bayyananne."

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي

إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، فَأَمَّا مَن وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

*Limamin Yahudawa Judah Mai Halin Ibadah\**

[46:10] Ka ce, "Shin, idan shi (Alqur'ani) daga wuring ALLAH ne fa, sai kuka kafirta da shi? Wani mai shaida daga Bana Isra'ila ya taba bayar da shaida a kan kwatancinsa,\* sa'an nan ya yi imani, sa'ad da kuka kangare. Lalle, **ALLAH** ba Ya shiryar da azzaluman mutane."

\*46:10 Wannan mai shaidan shi ne Limamin Yahudawa mai suna Judah mai Ibadah na zamanin (lisafin nasara dari 11th), wanda ya gano irin laqanin lamba 19 na shifran riyadiyah a cikin daidansa daga duntayen littafi (dubi Shafi 1).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

[46:11] Wadanda suka kafirta suna ce wa wadanda suka yi imani, idan da akwai wani alheri ne, da ba su riga muzuwa gare shi ba. Kuma tun da ba su shiryu gare shi, sai su ce, "Wannan qiren qarya ne na zamanin da."

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانَا عَرَبِيًّا لِّنُذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

[46:12] A gabaninsa akwai littafin Musa, wanda ya kasance abin koyi, kuma rahamah. Wannan shi ma littafi ne mai gaskatawa, a harshe na Larabci, domin ya gargadi wadanda suka yi zalunci, kuma ya zama bishara ga masu kyautatawa.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

*Bishara Mai kyau*

[46:13] Lalle ne, wadanda suka ce, "Ubangijinmu Shi ne **ALLAH**," sa'an nan suka aikata ayyuka na qwarasi, to, babu wani tsoro a kansu, kuma ba za su yi wani baqin ciki ba.

## أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

[46:14] Wadannan sun cancanci su zama 'yan Aljannah, wurin da za su dauwama ciki; a kan sakamako ga abin da suka kasance suna aikatawa.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ  
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Shekaran hukunci*

[46:15] Mun yi wasiyya ga mutum da ya kyautata wa mahaifansa biyu. Uwarsa ta yi wahalar cikinsa, kuma ta haife shi da wahala, ta yi dawainiyar kulawa da yayensa na wata talatin. Har sa'ad da ya kai ga balaga, kuma ya kai shekara arba'in,\* to, sai ya ce, "Ubangijina, Ka fuskantad da ni domin in yi godiya ga ni'imar da Ka ni'imantar a kaina, da kuma a kan mahaifana biyu, kuma domin in aikata aikin qwarai wanda Ka yarda da shi. Kuma Ka sanya zuriyata su zama na qwarai. Na tuba zuwa gare Ka; kuma ni, yanzu ina cikin Muslimai."

*\*46:15 Allah ne mafi sanin wadanda suka cancanci su shiga Aljannah da wadanda suka cancanci zuwa wuta. hukuncinSa ne cewa duk wanda Ya karbi ransa kafin shekarunsa 40 su cika zai shiga Aljannah. Yalwaitan Rahamar Allah shi ne kan cewa mafi yawan mutane suna da madalar karban gaskkiyar wannan rahmar Allah; suna husama da: "Ku saka su duka cikin Wuta."*

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي

أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

[46:16] Daga wa'annan ne Muke karban mafi kyaun abin da suka aikata, sa'annan Mu yafe munanan ayyukansu. Suna daga cikin 'yan Aljannah. Wannan wa'adin gaskiya ne wanda aka yi masu alkawari.

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدِيهِ أَفِ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ  
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

[46:17] Sa'annan akwai wanda ya ce wa mahaifansa biyu, "Tir gare ku; shin, kuna tsoratar da ni cewa (bayan na mutu) za a sake fitar da ni ga wata rayuwa ne? To, me ya sa wadanda suka mutu gabaninmu ba su dawo ba?" Sai su (mahaifan) su yi kuka suna neman taimakon **ALLAH** kuma su ce "Kaitonka; Ka yi imani! Wa'adin **ALLAH** gaskiya ne." Sai shi kuma ya ce, "Wannan ba kome ba ne sai tatsuniyan mutanen zamanin da."

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ

وَإِلَٰنِسٍ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿١٨﴾

[46:18] Wadannan ne wanda aka buga masu hatimin kafirci ta wajaba a kansu, a cikin kowace al'ummomin aljannu da mutane; su ne masu hasara.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظالمُونَ ﴿١٩﴾

[46:19] Kuma kowanensu duka akwai nau'i, ta darajoji, daidai da abin da suka aikata. Kuma zai cika masu sakamakon ayyukansu, ba tare da zalunci ba ko kadan.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا  
وَأستمنعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في  
الأرضِ بغيرِ الحقِّ وبما كنتم تفسقون ﴿٢٠﴾

[46:20] Kuma akwai ranar da za gabatar da wadanda suka kafir ta zuwa wuta (a ce musu): "Kun bata mafi yawan daman da aka baku cikin rayuwarku ta duniya, kuma kuka nemi jin dadi da su. Saboda haka, a yau za saka maka da azabar wulakanci, domin abin da kuka kasance kana yi na girman kai a cikin qasa, ba da wani haqqi ba, kuma domin abin da kuka yi na fasiqanci."

❁ وَأذْكَرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

*Hudu*

[46:21] Kuma ka ambaci dan'uan Adawa lokacin da ya yi gargadi ga mutanensa, a Tudun Rairai-kuwa an bada gargadi mai yawa agabaninsa da da baya gare shi (da cewa) "Kada ku bauta wa kowa sai **ALLAH**. Ina ji maku tsoron azabar yini mai girma."

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهِتِنَا فَاِنُنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنْ

الصَّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

[46:22] Suka ce, "Shin, ka zo mana ne domin ka karkatar da mu daga gumakaumu? To, muna qalubalenka, ka zo mana da (azaban) da kake ta yi mana barazanan wa'adi, idan ka kasance daga masu gaskiya."

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْ اَرٰىكُمْ قَوْمًا

بَجَهْلُوْنَ ﴿٢٣﴾

[46:23] Ya ce, "Ilimin wannan yana wurin **ALLAH**; ina dai iyar maku ne kawai da abin da aka aiko ni da shi. Amma ina ganin ku jahilan mutane."

فَلَمَّا رَاوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيْنِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمَطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا

اَسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِىْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

[46:24] To, a lokacin da suka ga ambariya ta nufo hanyarsu, sai suka ce, "Wannan hadari ne mai yi mana ruwa. Wannan ambariyan zai kawo mana ruwan da muke buqata." A maimakon haka, wannan abin da kuka qalubalantar (Hudu) ne ya kawo; bala'in iska, wanda a cikinta akwai wata azaba mai radadi.

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يَرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ

نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾



[46:25] Tana rusa kowane abu da umurnin Ubangijinta. Sai suka wayi gari, ba kome da ya rage sai gidajensu. Kamar haka ne Muke saka wa mutane masu laifi.

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا  
وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِّن  
شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

*Suna Izigili Da Gargadin Manzo*

[46:26] Kuma Mun qarfafa su kwatancin yadda muka qarfafa ku, kuma Muka yi masu ji, da gani, da zukata. Amma sai dai jinsu, da ganinsu, da zukatansu bai amfane su da kome ba. Dalili kuwa shi ne sun zabi su yi watsi da ayoyin **ALLAH**. Ta haka ne, ambata da gargadi wanda suka yi izgili da shi ya sa halaka ya wajaba a gare su.

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

[46:27] Kuma Mun halakar da abin da alqaryu masu yawa kewaye da ku, a bayan mun bayyana ayoyi, la'alla za su tuba.

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا  
عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

[46:28] To, me ya sa wadanda suke kira su kawo su kusa da **ALLAH** suka kasa su taimaka masu? Maimako, shika su ne suka yi. Wadannan dama abubuwan bautan qarya ne suke bauta; dama wadannan firtsi ne da suka qaga.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ

قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾

*Muminai A Cikin Aljannu*

[46:29] Kuma a lokcin da Muka umurta wadansu jama'a na aljannu zuwa gare ka, domin su samu su saurari Alqur'ani. To, alokacin da suka isa wurin, sai suka ce, "Ku yi shiru." Sa'an nan da aka qare, suka ruga zuwa ga jama'arsu suna masu gargadi.

*\*46:29 Aljannu wasu halitta ne da suka amince da Iblis sa'ad da ya fara sabonsa da aka sani, biliyoyin shekaru da suka wuce. Akan kawo su nan duniya ne a matsayin zuriyan Iblis. Ana haifan daya aljannu a kowane lokacin da aka haifi mutum. Akan sanya sabon haifuwan aljanni ga ainihin sabowan haifuwan mutum, kuma zai dunga cusa ra'ayin Iblis ne kullum (Shafi 7).*

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

[46:30] Suka ce, "Ya mutanenmu, mun ji wani littafi an saukar da shi a bayan Musa, mai gaskatawa ga littatafan da ke gaba da shi. Yana shiryarwa zuwa ga gaskiya, da kuma zuwa ga hanya madaidaiciya.

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ  
وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

[46:31] "Ya mutanenmu, Ku amsa zuwa kiran **ALLAH**, kuma ku yi imani da Shi. Sa'annan za gafarta maku zunubanku, kuma ya tserar da ku daga azaba mai radadi.

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ  
أَوْلِيَاءٌ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

[46:32] "Wadanda basu amsa wa mai kiran **ALLAH** ba, to ba za su iya su kubuta a cikin qasa ba, kuma ba su da wadansu majibinta baicin Shi; Wadannan suna a cikin bata bayyananna."

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ  
بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

[46:33] Shin, basu sani ba ne cewa **ALLAH**, wanda Shi ne ya halitta sammai da qasa ba tare da wani dan qaramin wahala ba, Mai ikon yi ne a kan rayar da matattu? Na'am, lalle Shi, Mai ikon yi ne a kan kome.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا  
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

[46:34] Kuma ranar da za gabatar da wadanda suka kafirta zuwa ga wuta, za tambaye su, "Shin, wannan ba gaskiya ne ba?" Za su ce, "Na'am, gaskiya ne, mun rantse da Ubangijinmu." Sai Ya ce, "To, ku dandana azaba sabada kafircinku."

فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ  
يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَمَهْلِكُ إِلَّآ  
الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ

*Manzon Allah Na Wa'adi\**

[46:35] Saboda haka, ka yi haquri kamar yadda manzani masu qarfin hali suka yi haquri. Kuma kada ka yi gaggawan ganin azaban da babu shakka zai zo masu. A ranar da za su ganta, zai yi masu kamar sun rayu ne na sa'a guda na yini. Wannan shi ne zayyanawa: Shin, ba fasiqai ne ake halakarwa ba kullum?

*\*46:35 Alqur'ani da hujjojin riyadiyah ko lissafi sun tabbatar cewa manzon da ake magana akai anan shi ne "Rashad Khalifa" (1230), aka hada da lambar surah (46), aka hada da lambar ayah (35), za mu sami 1311, ko 19x69. Wannan ne tabbaci tare da shifran Alqura'ani (shafi 2).*